



محدث فلسفی

سوال

(568) مناقتوں کے لئے سب سے دشوار عشاء اور صبح کی نماز ہے

جواب

السلام علیکم ورحمة الله وبركاته

کیا یہ جائز ہے کہ صبح کی نماز کے وقت آدمی سویرا ہے اور جب بیدار ہواں وقت پڑھ لے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ "جو شخص نماز سے سویرا ہے یا بھول جائے تو اسے جس وقت یاد آئے اس وقت پڑھ لے" اس کا وہی وقت ہے۔ "میں صبح کے وقت انہوں تو سکتا ہوں لیکن بڑے مشکل کے ساتھ اور اگر اس وقت نماز پڑھوں تو ذہن بھی حاضر نہیں ہوتا۔ (یعنی مسترشذہن سے نماز پڑھتا ہوں امید ہے کہ صبح کی نماز کی فضیلت نصوصاً نہایت وضاحت کے ساتھ اس کے تارک کی سزا بھی بیان فرمائیں گے؟

الجواب بعون الوہاب بشرط صحیح السؤال

وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته!

الحمد لله، والصلوة والسلام على رسول الله، أما بعد!

ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ تمام نمازوں کو بالجماعت مسجد میں ادا کرے اس کا خاص اہتمام کرے اور ہر اس بات سے دور رہے جو اللہ تعالیٰ کے فرائض کی بخار آوری میں رکاوٹ بنے۔ ان فرائض میں سے اہم ترین نماز فجر ہے صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے کہ :

«اُنکل اصلۃ المذاہبین صلاۃ الصبح وصلاة الغرہ ولو پڑھوں ما فیها لَا تبہا و لوما» (صحیح بخاری)

"مناقتوں کے لئے سب سے زیادہ دشوار نماز عشاء اور صبح کی نماز ہے۔ اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان نمازوں میں کتنا اجر و ثواب ہے تو وہ گھنٹوں کے مل چل کر آتے۔"

اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے :

وَقُرْءَانَ الْجَيْرَانِ قُرْءَانَ الْجَيْرَانِ مُشْوَدًا ۷۸ ... سورة الإسراء

"اور صبح کو قرآن پڑھا کر کیونکہ صبح کے وقت قرآن پڑھنا موجب حضور (ملائکت) ہے۔"

حدیث میں بھی ہے کہ صبح کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ یعنی اس وقت دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ نماز فجر ہی نمازو سلطی ہے اور کا استدلال ہے :

وَقُومَ الْأَمْرَةِ قَسْتِينَ ۲۳۸ ... سورة البقرة



محدث فتویٰ

”اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہا کرو۔“

کے عمل سے ہے کہ طول قیام تو نماز غیر میں ہی ہوتا ہے۔ بہر حال یہ واجب ہے کہ نماز صبح کے لئے خاص اہتمام کیا جائے لہذا یہ اسباب اختیار کیجئے جن کی وجہ سے آپ کے لئے نماز صبح کا باجماعت ادا کرنا ممکن ہو مثلاً رات جو جلد سوچیئے اور دیر تک بیدار نہ رہیے کیونکہ اس سے رات کے آخری حصہ میں نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اور آدمی صبح کی نماز بروقت ادا نہیں کر سکتا آپ پوری پوری کوشش کریں۔ کہ اذان کے قریب یا اذان سنتے ہی بیدار ہو جائیں یا کسی کے ذمے لگائیں جو آپ کو بیدار کر دے یا نماز کے وقت آپ کے دروازے پر دستک دے دے۔ یا الارم والی گھری استعمال کیجئے کہ اذان سن کر بیدار ہو جائیں اور جب انسان اٹھنے کا عادی ہو جائے تو وہ سستی اور صعوبت پر قابو پا ہی لیتا ہے۔ اس کے لئے اٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ نماز سے اسے محبت ہو جاتی ہے۔ اور نماز میں وہ جو کہتا اور سنتا ہے۔ اس کے لئے اسے دل کی حضوری بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم (شیخ بن جبرین رحمۃ اللہ علیہ)

حَمَّا عِنْدِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ بِالصَّوَابِ

فتاویٰ اسلامیہ : جلد 1

صفحہ نمبر 454

محمد فتویٰ